



سوال

(9) احرام کے لیے دو رکعت نماز پڑھنی شرط ہے یا نہیں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

احرام کے لیے دو رکعت نماز پڑھنی شرط ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

شرط نہیں بلکہ استحباب میں بھی علماء کا اختلاف ہے، جمہور کی رائے ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنی سنت ہے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے گا اور تبلیغ کے گا ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز کے بعد احرام کی نیت کی اور فرمایا: "میرے پاس میرے رب کا پیغامبر آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھنے اور کتنے کج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کرتا ہوں"

دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ اس بارے میں کوئی نص موجود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے پاس میرے رب کا پیغامبر آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھنے اس سے مراد فرض نماز ہو سکتی ہے اور احرام کی دو رکعتوں کے لیے اسے نص نہیں مانا جاسکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز کے بعد احرام باندھنا احرام کے لیے دو رکعتوں کی مشروعیت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ بلکہ دلیل صرف اس امر کی ہے کہ اگر ممکن ہو تو عمرہ اور حج کا احرام نماز کے باندھنا افضل ہے۔

حداماعزہمی واللہ اعلم بالصواب

حج بیت اللہ اور عمرہ کے متعلق چند اہم فتاویٰ

صفحہ: 20

محدث فتویٰ